

52. Eyi je ijişę de opin fun awon enia ati ki nwon le fi ma se ikilo ati ki awon na le mo dajudaju pe On ni Qlohun nikan Qba Aşo ati ki awon oni lakaye le ba ma se iranti.

**(15) Suratul Hijri**

*Ni orukọ Qlohun Aşokę aiye,  
Aşakę qrun.*

1. Alif, Lām, Rā, (Qlohun ni O mo ohun ti O gbal'ero pelu awon harafi yi) Awonyi ni awon ayah Tirā na ati Al-Kurani ti o han gbangba.

2. Awon eniti o je alaigbagbo qpoloqo igba ni nwon o ma fe pe ibasepe awon je eniti o ju ara silę fun Qlohun.

3. Fi won silę ki nwon ma je, ki nwon si ma gbadun ara won, je ki erongba ma tan nwon je laipe nwon o mo.

4. Awa ki dede pa ilu kan re ayafi ki akosile ti a ti mo ma be fun u.

5. Kosi awon ijo kan ti yio se amuwa akoko won siwaju igba re, nwon kosi le lo o lara.

6. Nwon si wipe: ire eniti a so iranti kale fun, dajudaju asiwere ni o.

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٥﴾

**سُورَةُ الْحَجَرِ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تَلَكَّ ء اِبْنَتُ الْكِتَابِ وَقُرَّءَانٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَبِلَهُمْ أَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا وَهَلَّا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٥﴾

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

7. Kini o ɕe ti iwɔ kò wa ba wa pɛlu malaika ti iwɔ ba jɛ ɔkan ninu awɔn olododo.

8. A ki dede sɔ malaika kalɛ laiɛ pɛlu ɛtɔ nigbana nwɔn kò ni jɛ ɛniti a ma lɔra fun.

9. Dajudaju Awa ni A sɔ iranti na kalɛ atipe dajudaju Awa ni Oluɕɔ fun u.

10. Dajudaju A ti fi (awɔn ojiɕɛ) ranɕɛ ɕiwaju rɛ si awɔn ijɔ ti o pin kelekele ninu awɔn ara iɕiwaju.

11. Atipe ojiɕɛ kan kò ni wa ba wɔn ayafi ki nwɔn jɛ ɛniti yio ma fi ɕe yèyè.

12. Bayi ni A ɕe jɛ ki o kó sinu ɔkan awɔn ɛlɛɕɛ.

13. Nwɔn kò ni gbagbɔ si i; dajudaju aɕà awɔn ɛni akɔkɔ ti rekoja lɔ.

14. Bi o fɛ bi Awa si oju ɔna kan fun wɔn ninu sanma ti nwɔn sin ngunke lɔ.

15. Dajudaju nwɔn wipe: Nɕe ni a bo wa loju, Bɛtiɛkɔ, awa jɛ enia kan ti a sa idan si.

16. Atipe dajudaju A ɕe awɔn ibusɔ (irawɔ) sinu sanma, A si ɕe e ni ɔɕɔ fun awɔn ti yio ma wo o.

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلٰئِكَةِ اِنْ كُنْتَ  
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧﴾

مَا نُنزِلُ الْمَلٰئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا  
اِذَا مُنظَرِيْنَ ﴿٨﴾

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَلسّٰوِطُوْنَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيْعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٠﴾

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١١﴾

كَذٰلِكَ نَسْأَلُكَ فِي قُلُوْبِ الْمَجْرِمِيْنَ ﴿١٢﴾

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَاَوْقَدْتَ سَنَةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾

وَلَوْ فَحَصْنَا عَلَيْهِمْ اٰبَا مِنْ السَّمٰوٰتِ فَظَلُّوْا فِيْهِ  
يَعْرَجُوْنَ ﴿١٤﴾

لَقَالُوْا اِنَّمَا سَكَّرْتُمْ اَبْصُرْنَا  
بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمٰوٰتِ بُرُوْجًا وَرَبَّيْنَاهَا  
لِلنَّظْرِ رَبِّكَ ﴿١٦﴾

17. Atipe A dabo bo o lɔḍo gbogbo eṣu ɛniti a ti gbe jinna si ikẹ (Ọlọhun).

18. Ṣugbɔn ɛni keni ti o ba ji ọrọ gbọ; nitorina ogun'na ti o han gbagba lomã tẹle e.

19. Ati ilẹ na, A tẹ ẹ A si ju awon oke (apata) si ori rẹ, A si nje ki o hu jade ninu rẹ gbogbo nkan ti o dara fun ohun ti a da won fun.

20. A ɛe ọna jije fun nyin ninu rẹ ati awon ɛniti ɛnyin kò pese fun.

21. Atipe kò si nkankan ti ọrọ rẹ kò si ni ọḍo Wa, A ki sòkalẹ ayafi pẹlu oṣu won ti a ti mọ.

22. Atipe A ran awon ategun ti nje kinkan hu A si nsọ omi kalẹ lati inu sanma, A si nfun nyin mu, ɛnyin kọ ni ẹ nko o jọ.

23. Atipe dajudaju Awa ni A nṣe alāyè Awa ni ngba ɛmi, Awa ni A o jogun (won).

24. Atipe dajudaju Awa mọ ɛniti o siwaju ninu nyin aitpe dajudaju A tun mọ ɛniti o ma gbẹhin (ninu nyin).

25. Atipe dajudaju Oluwa rẹ On ni yio ko won jọ, dajudaju On ni Ọlọgbon, Oni-mimọ.

26. Atipe dajudaju Awa da enia lati inu àmọ dudu ti a sun jina ti a si yi pada si ẹda.

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾

إِلَّا مِنْ أَسْرَفَ السَّمْعِ فَأَنْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾

وَجَعَلْنَا الْكُفْرَ فِيهَا مَعَدِيْسَ وَمَنْ لَشْتُمْ لَهُ بُرُوفِينَ ﴿٢٠﴾

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعْنَدْنَا خِزْيَانَهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِإِقْدَارٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لُؤْفِحٍ فَآزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَادِرِينَ ﴿٢٢﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

27. Atipe alijonu A fi ina ti o gbona da a siwaju.

28. Atipe (ki o ranti) igbati Oluwa Re wi fun awon malaika pe: Emi fe da abara kan lati inu amo dudu ti o jinna ti a nyi pada (si eda).

29. Nigbati Mo se e dogba tan Mo si fe ninu emi Mi sinu re, nigbana (Mo wipe): E te lo sila ni eniti o ma teriba (fun u).

30. Nitorina gbogbo awon malaika yanyan si teriba.

31. Ayafi Ibilisi (esu), On ko lati wa ninu awon ti o teriba.

32. (Oluwa) si wipe: ire Ibilisi, kini o se o ti ire ko ma be pelu awon ti o teriba.

33. On si wipe: Emi ko je teriba fun abara kan ti O da eda re ninu amo ti o gbete ti o si dudu ti a nyi pada (si eda).

34. (Oluwa) si wipe: Nitorina jade kuro ninu re, atipe dajudaju iwọ di eni lile junu.

35. Atipe dajudaju egun wa lori re lo di ojọ esan.

36. On si wipe: Oluwa mi, nitorina lora fun mi lo di ojọ ti a o gbe awon (enia) dide.

وَالْحَانَ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُورِ ﴿٧﴾

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا  
مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٨﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  
فَقَعُوا لَهُ، سَكِّدِينَ ﴿٩﴾

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿١٠﴾

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

قَالَ يَا بَلِيسَ مَا لَكَ الَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿١٢﴾

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ، مِنْ صَلْصَلٍ  
مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿١٣﴾

قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿١٤﴾

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿١٥﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

37. On (Qlqhun) wipe: Dajudaju ire o ma be ninu awon eniti a lora fun.

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾

38. Lo di ojqo asiko ti a mo.

إِلَى يَوْمِ الْوَلُوفِ الْعَلَمُورِ ﴿٣٨﴾

39. On (Ibilisi) wipe: oluwa mi., nitori sise ti O se mi ni eni anu, dajudaju emi yio se awon nkan buru lofo fun won lori ile atipe emi yio so gbogbo won di eni anu.

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

40. Ayafi awon erusin Re ninu won ti a fo won mo.

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾

41. O si wipe: Eyi je oju ona kan ti o to lofo Mi.

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

42. Dajudaju awon olujosin Mi, agbara kan ko ni si fun o lori won, ayafi eniti o ba tele o ninu awon eni anu.

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ  
مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

43. Atipe dajudaju ina Jahannama ni a se ileri fun won patapata.

وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

44. Awon oju ona meje wa fun u. Ipin kan ti a pin wa fun oju ona kqkan ninu won.

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ  
جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

45. Dajudaju awon olupaiya (Qlqhun) nwon o ma be ninu oqba idera ati awon orisun omi yio ma be nibe.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

46. (A o wi fun won pe) E wo inu won lo pelu alafia ati ifaiyabale.

أَدْخُلُوها بِسَلَامٍ وَأَمِينٍ ﴿٤٦﴾

47. Atipe Awa yio yọ ohun ti o wa ninu ọkàn wọn ni kọdọyi kuro bi ọmọ-iyá kanna, lori ibusun ti nwọn o dojukọ ara wọn.

48. Wahala kan kò ni ba wọn ninu rẹ nwọn ki yio si jade niḅẹ.

49. Rohin fun awọn ẹrusin Mi pe dajudaju Emi jẹ Alaforiji, Alānu.

50. Atipe dajudaju iya Mi on ni iya ẹlẹta-elero.

51. Rohin fun wọn nipa awọn alejo Ibrahimá.

52. Nigbati nwọn wọle lọ ba a, nwọn wipe: Alafía fun ẹ! o wipe: Ẹru nyin ba wa.

53. Nwọn sọ pe: Ma ẹḅu, awa wa fun ọ niro idunnu nipa ọmọkunrin kan, ti yio jẹ oni mimọ.

54. O wipe: Ẹnyin ha nfun mi niro idunnu (ọmọ bibi) nigbati o ẹ pe ogbo ti de si mi? Iro idunnu wo ni ẹnyin o tun fun mi.

55. Nwọn sọpe: Awa nfun ọ niro idunnu pẹlu otitọ, nitorina maṣe wà ninu awọn ti o sọ ireti nu.

56. O sọ pe: ko si ẹniti yio ja tanma anu Oluwa rẹ afi ẹni iṣina.

57. O wi pe: Kini ẹ wa fun, ẹninin ojìṣẹ?

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا  
عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿١٧﴾

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ  
وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿١٨﴾

﴿١٩﴾ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْعَفْوَورُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠﴾

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٢١﴾

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٢٢﴾

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ  
وَجِلُونَ ﴿٢٣﴾

﴿٢٤﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ﴿٢٥﴾

﴿٢٦﴾ قَالَ أُبَشِّرُكُمْ بِوَالِدٍ بُشِّرْتُمْ عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ  
فِيمَا تَبَشَّرُونَ ﴿٢٧﴾

﴿٢٨﴾ قَالُوا بَشِّرْنَا بِأَلْحَقٍ فَلَا تَكُنْ مِنَ  
الْقَانِطِينَ ﴿٢٩﴾

﴿٣٠﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْضُ مِنْ رَحْمَةِ  
رَبِّيهِ إِلَّا الْأَضَالُوتُ ﴿٣١﴾

﴿٣٢﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٣﴾

58. Nwọn wipe: Dajudaju awọn eḷeṣe enia ni a ran wa si.

قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ نُوحٍ مُّرسِلِينَ ﴿٥٨﴾

59. Afi awọn ẹniti o ṭele Lutu. Awa yio ko wọn yọ patapata.

إِلَّا أَلَّا لَوْ طِإِنَّا لَمَنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

60. Afi obirin rẹ: Awa ti pari rẹ pe on mbẹ ninu awọn ti o gbẹhin.

إِلَّا أَمْرَاتُهُنَّ وَقَدْ رَأَيْنَاهُنَّ الْعَبْدِيبِ ﴿٦٠﴾

61. Nigbati awọn ojiṣe na de oḍo awọn ẹni Lutu.

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

62. O sọpe: Dajudaju ẹninin je awọn enia kan ti a ko mọ.

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكْرُونَ ﴿٦٢﴾

63. Nwọn sọpe: Ọrọ kò ri bẹ, awa wa ba o nipa ohun ti nwọn nṣe ariyanjiyan si.

قَالُوا بَلْ جِنَّتَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْشُونَ ﴿٦٣﴾

64. Awa mu ododo wa ba o, atipe dajudaju olododo ni awa.

وَأَنبَأْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

65. Rin jade pẹlu awọn ẹnini tirẹ ninu apakan oru ki o si ṭele wọn lẹhin, ki ẹnikan ma ṣe wo ẹnininu nyin, ki ẹnini si ibiti a pa laṣe fun nyin.

فَأَسْرَأَ بِأَهْلِكَ يَفْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَتَّعِجُ أَدْبَارَهُمْ  
وَلَا يَلْفِيفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

66. Awa si jẹki o mọ idajọ yi, pe gbongbo awọn elewonyi ni a o ge kuro (lori ilẹ) lowurọ.

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَاتِ دَابِرَ هَتُولَاءِ  
مَقْطُوعٍ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

67. Awọn ara ilu na si de ni ẹnini nwọn nyọ.

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

68. O sọpe: Awọn alejo mi niwonyi, ẹnini ma dojuti mi.

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

69. Atipe ki ẹnini paiya Ọlọhun ki ẹnini ma dojuti mi.

وَأَقْرَبُوا اللَّهَ وَلَا تَخْرُونِ ﴿٦٩﴾

70. Nwọn sọpe: Awa ko ha ti kilọ fun ọ nipa awọn enia (ni alejo).

قَالُوا أَوْلَئِم نَنَهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

71. O sọpe: Awọn ọmọbirin mi ni wọnyi, bi ẹ ba ẹ se nkankan.

قَالَ هُوَؤَلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَتَعَلِينَ ﴿٧١﴾

72. Ẹmi rẹ ni a fi bura! ninu itarara wọn ni nwọn npoi-yi-kiri.

لَعَنَرُكَ إِنَّم لِي سَكْرَتِي مَعَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

73. Ijagbemọ si mu wọn ni owurọ. (ni akoko ziyọ oorun).

فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

74. Awa si sọ ibigiga rẹ (ilu nã) di pẹtẹlẹ rẹ Awa si rọ ojo okuta lile le wọn lori.

فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

75. Dajudaju ami wa ninu eyi fun awọn ti o nwa ẹkọ kọ.

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٥﴾

76. Dajudaju o si wa ni oju ọna ti yio ma wa bẹ lọ.

وَإِنهَا لَبَسِيلٌ مُّقْبِرٍ ﴿٧٦﴾

77. Dajudaju ami wà ninu eyi fun awọn onigbàgbọ ododo.

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

78. Awọn ara oko (igbonla) ẹ alabosi.

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

79. Awa si ẹ wọn niya. Dajudaju awọn mejẹji si wa pẹluaşaju ti o han gbangba.

فَأَنقَمْنَا مِنْهُم وَإِنَّمَا لِيَامرُؤِينَ ﴿٧٩﴾

80. Dajudaju awọn ti ngbe inu iho apata pe awọn ojişẹ nirọ.

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

81. Awa si fun wọn ni awọn ami Wa, şugbọn nwọn şeri kuro nidi rẹ.

وَأَلَيْنَاهُم آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

82. Nwọn si ngbẹ awọn ile sinu awọn apata, niti ifaiyabalẹ.

وَكَانُوا يُرْسِلُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا ﴿٨٢﴾





94. Nitorina kede ohun ti a pa o laşè rẹ̀ sita ki o si kuro lọdọ awọn oşẹbọ.

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

95. Dajudaju Awa yio to o lori awọn şẹfẹşẹfẹ.

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٥﴾

96. Awọn ẹniti nfi ọlọhun (orişa) miran pẹlu Ọlọhun, nitorina nwon nbọ wa mọ.

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

97. Dajudaju Awa mọ pe ọkàn rẹ kun fun ohun ti nwon nwi.

وَلَقَدْ نَعَّمْنَاكَ بِضِيقِ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾

98. Nitorina şe afomọ pẹlu ọpẹ Oluwa rẹ, ki o si wa ninu awọn oluforibalẹ.

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٨﴾

99. Atipe ki o sin Oluwa rẹ titi amọdaju yio fi wa ba ọ. (eyini: iku).

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٩﴾

(16) Suratul - Nahli

Ni orukọ Ọlọhun Ajọkẹ aiyẹ,  
Aşakẹ ọrun.

1. Aşẹ Ọlọhun (yio) de, nitorina ẹ ma kanju dide rẹ. Mimọ Rẹ, ati giga Rẹ tayọ ohun ti nwon fi şe orogun Rẹ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

2. A ma sọ awọn malaika kalẹ pẹlu ẹmi (mimọ) lati inu aşẹ Rẹ fun ẹniti O ba fẹ ninu awọn ẹrusin Rẹ pe: Ẹ ma şe ikilọ pe dajudaju kò si Ọlọhun miran ayafi Emi nitorina ki ẹ bẹru Mi.

يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾